

برائے فوری اجراء

## برامپٹن فائر اب جارج ہچکاک برسری اور نئے فائر فائٹرز کی بھرتی کے لیے درخواستیں وصول کر رہا ہے

برامپٹن، آن (1 مارچ 2022) – برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی جانب سے جارج ہچکاک میموریل اینڈوومنٹ فنڈ کے لیے درخواستیں قبول کی جا رہی ہیں۔ یہ سالانہ برسری پروگرام فائر سروسز میں کیریئر بنانے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔

درخواست دینے کے اہل ہونے کے لیے، دلچسپی رکھنے والے درخواست دہندگان کے لیے درج ذیل چیزیں لازمی ہیں:

- برامپٹن کے رہائشی، کینیڈا کے شہری اور کینیڈا میں کام کرنے کے اہل ہوں۔
- آگ سے بچاؤ کے متعلقہ پروگرام میں اونٹاریو پوسٹ سیکنڈری اسکول ڈپلومہ حاصل کر رہے ہوں۔
- 15 اپریل تک مکمل شدہ درخواست فارم جمع کرائیں۔

درخواستیں [bramptonfire.com](http://bramptonfire.com) پر موجود ہیں اور [firelife@brampton.ca](mailto:firelife@brampton.ca) پر جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ درخواستیں 15 اپریل تک یا زیادہ سے زیادہ 30 درخواستیں موصول ہو جانے تک وصول کی جائیں گی۔

شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کو انٹرویو میں شرکت کے لیے مدعو کیا جائے گا اور ایک درخواست دہندہ کو \$1,000 برسری کے لیے منتخب کیا جائے گا، جس کی ادائیگی ان کے کورس کے اندراج کے لیے براہ راست طور پر کی جائے گی۔ کامیاب درخواست دہندہ کو اونٹاریو کے کسی پوسٹ سیکنڈری اسکول پروگرام میں قبولیت کا ثبوت فراہم کرنا ہو گا۔

جارج ہچکاک میموریل اینڈوومنٹ فنڈ 2014 میں آنجہانی ڈویژن چیف جارج ہچکاک کے اعزاز میں قائم کیا گیا تھا، جنہوں نے 33 سال تک برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم میں اپنی شاندار خدمات سر انجام دی تھیں۔ ہچکاک نے فائر/لائف سیفٹی ایجوکیشن ڈیویژن کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا، جس نے برامپٹن کے ہزاروں شہریوں کو آگ سے حفاظت کی تعلیم فراہم کرنے میں شاندار کردار ادا کیا ہے۔

مزید معلومات اور درخواست دینے کے لیے، ملاحظہ کریں: [bramptonfire.com](http://bramptonfire.com)

### بھرتی

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز موجودہ طور پر نئے فائر فائٹرز کی بھرتی کر رہا ہے۔ درخواستیں 21 مارچ تک وصول کی جائیں گی۔ ایسے درخواست دہندگان جو فائر سروسز کے ساتھ کیریئر کے بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی رکھتے ہوں انہیں 9 مارچ کو شام 6 بجے ورچوئل کیریئر انفارمیشن سیشن میں شرکت کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ شرکت کرنے کے لیے، یہاں رجسٹر کریں: [bramptonfire.com](http://bramptonfire.com)

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز میں کیریئر کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: [bramptonfire.com](http://bramptonfire.com)

### اقتباسات

"ہماری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم ایسے افراد پر مشتمل ہے جو کمیونٹی اور فائر سیفٹی کے لیے پرعزم ہیں۔ جارج ہچکاک اپنی ٹیم کا ایک متاثر کن رکن تھا اور میں برامپٹن کے ایسے اہل افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں جو فائر سروسز میں اپنا کیریئر بنا رہے ہیں، کہ وہ اس شاندار موقع کے لیے درخواست دیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیم ہماری کمیونٹی کو محفوظ رکھنے اور برامپٹن کو ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر بنانے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر روز اوپر اور مزید آگے جاتی ہے۔ وہ ایک ایسی ٹیم بنانے کے لیے بھی پرعزم ہیں جو متنوع، جامع اور اس کمیونٹی کی عکاسی کرتی ہے جس کی وہ خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے نئے ممکنہ فائر فائٹر کو اعانت فراہم کرنے کے لیے اس سالانہ برسری پروگرام کی دوبارہ بحالی کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا ہے۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ٹویژن چیف جارج ہچکاک فائر سروسز اور کمیونٹی سیفٹی کے لیے پرجوش اور اس کے چیمپئن تھے۔ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم کے لیے ان کی شاندار خدمات اور خواہش مند فائر فائٹرز کی مدد کے لیے اس برسری کو بطور میراث پیش کرنا ایک اعزاز کی بات ہے۔"

- بل بوئیر، چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کمیونٹی کی آگاہی اور حفاظت کے لیے انتہک کام کرتی ہے۔ میں فائر سروسز میں کیریئر بنانے میں دلچسپی رکھنے والے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس ناقابل یقین حد تک عظیم ٹیم کا حصہ بننے اور برامپٹن کی کمیونٹی کو کچھ واپس دینے کے لیے اس دلچسپ موقع کے لیے درخواست دیں۔"

- پال مورین، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹ، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)